

47142- عورتوں کو وراثت کے عوض میں ہدیہ دینا

سوال

عورتوں کو وراثت کے عوض میں ہدیہ دینے والوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟

پسندیدہ جواب

جاہلیت کے ظالمانہ نظام میں میت کا مال صرف اس کے بڑے بیٹوں کو ہی منتقل ہوتا تھا، اور اگر اس کا کوئی بڑا بیٹا نہ ہوتا تو پھر میت کے بھائی یا چچا کو مال دیا جاتا، اور چھوٹے بچے اور نہ ہی عورتیں مال متروکہ کے وارث نہیں بن سکتے تھے، اور دلیل یہ دی جاتی تھی کہ یہ الدمار کا بچاؤ نہیں کر سکتے۔

(الدمار یہ ہے کہ: ہر وہ کچھ جس کا انسان پر بچاؤ کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کا دفاع کرنا ضروری ہو، مثلاً اہل و عیال، اور عزت و غیرہ کا دفاع کرنا)

اور یہ چھوٹے بچے اور عورتیں نہ تو لڑائی کرتے ہیں، اور نہ ہی غنیمت لاتے ہیں۔

جاہلیت کی منطق یہی تھی جو آج بھی بعض لوگوں کے سینوں میں پنپنے لگی ہے جن کی فطرت الٹ ہو چکی ہے، دین اسلام نے اعلانیہ طور پر اس جاہلیت کے ظالمانہ نظام کو باطل کرتے ہوئے انہیں وراثت کا حق دیا ہے اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿والدین اور رشتہ داروں نے جو کچھ

ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے مردوں کا حصہ ہے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ یہ حصے مقرر کردہ ہیں﴾ النساء (7)۔

پھر اس کے بعد ترکہ کی تقسیم کی تفصیلی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ احکم الحاکمین کی جانب سے عورت اور مرد کا حصہ

پورے عدل و انصاف اور حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا۔

دیکھیں: التفتیقا المرضیة فی المباحث

الفرضیة صفحہ نمبر (17)۔

اس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو بغیر کسی شرعی سبب وراثت سے محروم کرنا بہت ہی بڑا اور عظیم جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دشمنی اور اس پر زیادتی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میراث کے بعد کچھ اس طرح فرمایا ہے:

﴿یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو

کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریگا، اللہ تعالیٰ اسے

جنت میں داخل کریگا، اس کے نیچے سے نہیں بہتی ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے

گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی

کریگا، اور اس کی حدود سے تجاوز کریگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریگا،

وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کے لیے ابانت آمیز عذاب ہے ﴿النساء (13-14)

﴾۔

اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی

حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کسی نے بھی اپنے کسی مسلمان

بھائی کا حق چھوٹی قسم کے ساتھ کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا

ہے، اور اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے”

تو ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ

تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ چیز حقیر اور چھوٹی سی ہو؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

”اور اگرچہ وہ اراک کی ایک پھڑی ہی

ہو”

صحیح مسلم حدیث نمبر (137).

اور اس وراثت کے عوض میں عورتوں کو کوئی ہدیہ اور عطیہ وغیرہ دینا اس حق سے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی اس سے وہ حق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جو کوئی بھی ایسا کرے تو اسے جتنا عطیہ بھی دے دے لیکن وراثت میں سے حصہ نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا، چاہے وہ وراثت کے حصے سے زیادہ رقم کا عطیہ بھی دے دے، کیونکہ اس نے تو یہ اشیاء اسے ہدیہ اور عطیہ کر کے دی ہیں، نہ کہ انہیں ان کا وراثت میں سے شرعی حق سمجھ کر۔

اور چاہے وہ انہیں وراثت کے حق کے عوض میں دے تو یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیگا، کیونکہ ہدیہ اور چیز ہے، اور بیع اور معاوضہ اور چیز ہے اس لیے وراثت میں سے ان کا حق ان کی طرف ضرور منتقل ہونا چاہیے، اور اس حق میں انہیں تصرف اور لین دین کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، چاہیے وہ اپنا حصہ اپنے پاس رکھیں، یا اسے فروخت کر دیں، یا ہبہ کر دیں اور کوئی اور تصرف کریں جس طرح ایک مالک اپنے مال میں کرتا ہے۔

لیکن وہ وراثت کا مال صرف مردوں کے ماتحت رہے، اور مرد جو چاہیں اس میں تصرف کرتے پھریں، اور عورتیں یا تو ان مردوں کو ہی اپنا حصہ فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں، یا پھر وہ کسی عوض یا بغیر عوض کے اپنا حق چھوڑنے پر مجبور ہوں، تو یہ جائز نہیں، بلکہ یہ تو غضب اور ظلم ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اے ایمان والو! تم اپنا مال آپس میں ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ، مگر یہ کہ وہ آپس میں رضامندی سے تجارت کے ساتھ ہو﴾۔ النساء (29).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”خرید و فروخت تو آپس میں رضامندی سے ہوتی ہے“

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (2185)
علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح ہے :

”کسی بھی شخص کا مال اس کی رضامندی
کے بغیر حلال نہیں“

مسند احمد حدیث نمبر (20172) علامہ
البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الجامع حدیث نمبر (7662) میں اسے صحیح قرار دیا
ہے۔

اور اسی طرح اگر اسے فروخت کرنے کا
سبب مردوں سے شرم و حیاء ہو، اور ان کی محبت و رضامندی حاصل کرنے کی حرص ہو تو بھی
مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ جائز نہیں۔

ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”تو مکڑہ یعنی جس پر جبر کیا گیا ہو
حق کے بغیر اس کی بیع صحیح نہیں، اس لیے اگر کسی ظالم حکمران نے کسی شخص کو اپنا
سامان کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنے پر مجبور کیا اور اس نے فروخت کر دیا تو یہ بیع
صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سودا رضامندی کے بغیر ہوا ہے۔

اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو
یہ معلوم ہو جائے کہ اس بائع نے آپ کو اپنا سامان حیاء اور شرم کی وجہ سے فروخت کیا
ہے تو آپ کے لیے اس سے وہ سامان خریدنا جائز نہیں، جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ اگر
شرم اور حیاء مانع نہ ہوتی تو وہ یہ سامان آپ کو فروخت نہ کرتا آھ

دیکھیں : الشرح الممتع (8/121)۔

اور جب وراثت سے محروم کی جانے والی
عورت اور لڑکی یتیم ہو تو یہ گناہ اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے، لہٰذا ابھی وہ
لڑکی بالغ بھی نہ ہوئی اور اس کا والد فوت ہو گیا ہو، اور اسے وراثت سے محروم کر دیا

جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کا باطل طریقہ سے مال کھانے میں بھی شامل ہوگا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿يَقِينًا وَه لُوكِ جَوِيْمِيُوں كَا مَالِ
نَا حَقِّ طَرِيْقِيُوں اَوْر ظَلْمِ كِي سَا تَه كَهَاتِيُوں هِيُوں وَه تُو اِپْنِي پِيُوں مِيُوں جَهَنَّمِ كِي اَكِ ڈَالِ رِهِيُوں
هِيُوں، اَوْر وَه جَهَنَّمِ مِيُوں دَا خَلِ هُوْنِگِيُوں﴾۔ النساء (10)۔

واللہ اعلم۔